

موسم کے بارے میں بات کرنا

## Parler de la météo

 Espen Stranger-Johannessen

 Ognjen Drageljević

 Yasir Tayyab

 2

 اردو ur / français fr

“سردیوں کے دن آ رہے ہیں۔ درجہ حرارت کیسے ہے؟”

...

“Les journées commencent à se rafraîchir.  
Quelle est la température ?”

” درجہ حرارت نو ڈگری ہے۔ ابھی تک موسم خزاں ہی ہے، لیکن  
جلد ہی موسم سرہ آجئے گا۔”

...

“Il fait neuf degrés. Nous sommes toujours en  
automne, mais ce sera bientôt l'hiver.”

“مجھے موسم بھر کا انتظار ہے، لیکن میں موسم گرہ کو زیدہ  
پسند کرتا ہوں، جب یہ اچھ اور گرم ہوتا ہے۔”

...

“J'ai hâte d'être au printemps, mais je préfère  
l'été, quand il fait beau et chaud.”

“مجھے سردی ۛ موسم بُرا نہیں لگتا۔ لیکن جُرش اور ہوا مجھے  
پسند نہیں ہے۔”

...

“Je me fiche du froid. C'est la pluie et le vent  
que je n'aime pas.”

“ان سیدہ بدلوں کو دیکھو۔ کل ہرش ہوگی۔ بہت تیز ہوائیں بھی  
چلیں گی۔ شدید طوفان آئے گا۔”

...

“Regarde ces nuages sombres. Il va pleuvoir  
demain. Il y aura beaucoup de vent aussi.  
Peut-être qu’il y aura un orage.”

“میں امید کرڈ ہوں ایسے نہ ہو۔ مجھے اصل میں خراب موسم پسند نہیں ہے، خاص طور پر ہڈل کی گرج اور آسہنی بجلی۔ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ آسہنی بجلی مجھ پر نہ گر جائے۔”

...

“Je n'espère pas. Je n'aime vraiment pas le mauvais temps, surtout le tonnerre et les éclairs. J'ai peur que la foudre me frappe.”



## LIDA Stories

[lidastories.net](http://lidastories.net)

موسم کے بارے میں بات کرنا

### Parler de la météo

- ✎ Espen Stranger-Johannessen
- ✉ Ognjen Drageljević
- 💬 Yasir Tayyab (ur), Zina (fr)

